

12 جون 2018

برامپٹن مارکیٹس - ایک شاندار موقع

برامپٹن، آن - اس جون کے مہینے میں انتہائی ہر دلچیز برامپٹن مارکیٹس واپس آ رہی ہیں، جو آپ کو ایک شاندار موقع فراہم کرنے کے لیے پر عزم ہیں۔

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن فارمرز مارکیٹ

مورخہ 16 جون کو اپنے آغاز پر، 75 سے زیادہ تیار کنندگان، تیار شدہ اشیاء کے فروخت کنندگان اور مقامی دستکاروں کے ہمراہ، 2018 فارمرز مارکیٹ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں مین اسٹریٹ پر نیلسن اسٹریٹ تا ویلنگٹن اسٹریٹ تک سجائی جائے گی۔

ابتدائی طور پر لیبر ڈے کے بعد روزیلیہ پارک میں منتقل کیے جانے کی منصوبہ بندی کے ساتھ، ڈاؤن ٹاؤن فارمرز مارکیٹ اب تھینکس گونگ کے ہفتے کے اختتام تک مین اسٹریٹ پر رہے گی۔

2018 مارکیٹ میں گارڈن اسکوائر میں 25 نئے فروخت کنندگان اور 7 نئے دستکار شامل ہیں، جن میں سے 20 مقامی برامپٹن کاروبار وابستہ ہیں۔ فروخت کنندگان کی ایک مکمل فہرست [آن لائن](#) حاصل کی جا سکتی ہے۔

ڈاؤن ٹاؤن فارمرز مارکیٹ تازہ مقامی سبزیوں، گوشت، خاصیت والی اشیاء اور تیار شدہ کھانوں کے لیے ایک اسٹاپ والی مارکیٹ ہے۔ مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں www.brampton.ca/bramptonfarmersmarket

ڈاؤن ٹاؤن مارکیٹ کی تفصیلات:

- ہر ہفتے کے دن، صبح 7 تا دن 1 بجے، بارش ہو یا دھوپ، 6 اکتوبر تک
- مارکیٹ انتہائی شدید موسم کی صورت میں نہیں لگے گی۔
- مین اسٹریٹ ہر ہفتے کے روز صبح 5:45 سے دن 2 بجے تک ٹھیٹر لین سے لے کر ویلنگٹن اسٹریٹ تک بند رہے گی۔
- سٹی ہال کے اندر واقع، سروس برامپٹن میں مارکیٹ کے موسم کے دوران ہر ہفتے کے روز صبح 9 سے دن 1 بجے تک اضافی اوقات کار ہوں گے
- مفت عوامی پارکنگ، ڈاؤن ٹاؤن کور میں پانچ میونسپل پارکنگ گراجز میں دستیاب ہے: سٹی ہال، ویسٹ ٹاور، جان اسٹریٹ، نیلسن اسکوائر اور مارکیٹ اسکوائر
- سٹی ہال میں بیت الخلاء کھلے رہیں گے

ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج مارکیٹ

21 جون، بروز جمعرات کو 100 کمیونٹی ڈرائیو پر ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج اسکوائر میں ہفتہ وار شام کی ویلج مارکیٹ موسم کے لیے کھلے گی اور اس میں کسان اور تیار کھانوں کے فروخت کنندگان شامل ہوں گے۔ اس سال نئی چیزوں میں اضافی سیٹیں اور کھانے کے ٹرکس کی گردش شامل ہے، جس سے اسکوائر گرمیوں میں جمعرات کی شاموں کو کمیونٹی کے لیے ایک نئی اور زبردست جمع ہونے کی جگہ بن جائے گا۔

ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج مارکیٹ کی تفصیلات:

- ہر جمعرات کے دن، شام 4 تا رات 8 بجے، بارش ہو یا دھوپ، 4 اکتوبر تک
- مارکیٹ انتہائی شدید موسم کی صورت میں نہیں لگے گی۔
- مارکیٹ کے لیے پارکنگ گرمیوں کے موسم کے لیے ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج اسکول پارکنگ لائٹ میں دستیاب ہے۔ اضافی اسٹریٹ پارکنگ زیادہ سے زیادہ تین گھنٹوں کے لیے دستیاب ہے۔
- ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج لائبریری اور کمیونٹی سنٹر میں بیت الخلاء کھلے ہوں گے

اقتباس

"ہم برامپٹن میں مارکیٹ کے موسم کے نظاروں، خوشبوؤں اور آوازوں کو واپس خوش آمدید کہنے کے لیے بہت پر جوش ہیں۔ پورے اونٹاریو میں سے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور وہ تمام چیزیں ملاحظہ کریں جو ڈاؤن ٹاؤن اور ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج مارکیٹس پیش کرتی ہیں۔ تمام عمر کے افراد کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے مقامی کھانے اور سرگرمیاں موجود ہیں۔ ہم آپ کو مارکیٹ کے اس موسم میں برامپٹن میں دیکھنے کی امید کرتے ہیں!"

- میئر لنڈا جیفری

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔